



ہمارے
تارکین وطن
خاندانوں

خاندانوں کے لیے وسائل کا مجموعہ





مندرجات کا جدول

3 - 2

خاندانوں کے لئے ہمارا عزم

8 - 4

محفوظ تعلیمی زون کے اصول

13 - 9

خاندانی تیاری کا منصوبہ

14

فیملی ریسورس سنٹر

19 - 15

اضافی وسائل

21 - 20

فلاح و بہبود کے وسائل



خاندانوں کے لئے ہمارا عزم



عزیز RUSD فیملیز،

2017 میں، بورڈ آف ایجوکیشن نے تمام RUSD کیمپسز کو امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر تمام طلبہ اور خاندانوں کے لیے محفوظ تعلیمی زونز کے طور پر نامزد کیا۔ ڈسٹرکٹ ایک محفوظ، خوش آئند، اور جامع تعلیمی ماحول فراہم کرنے اور تارکین وطن طلبہ اور ان کے خاندانوں کے حقوق کی قانون کی طرف سے اجازت کی مکمل حد تک حفاظت کرنے کے لیے پر عزم ہے۔

ہمارے خاندانوں کے لیے درج ذیل جاننا ضروری ہے۔

ریور سائیڈ یونیٹ اسکول ڈسٹرکٹ:

- طلبہ کے ریکارڈ اور رازداری کی حفاظت کرتا ہے
- تمام اسکولوں میں طریقہ کار کو مستقل طور پر لاگو کرتا ہے
- طلبہ یا خاندانوں کے بارے میں وفاقی امیگریشن حکام کے ساتھ بات چیت شروع نہیں کرتا
- امیگریشن نافذ کرنے والی سرگرمیوں کو انجام دینے یا ان کی مدد کے لیے ڈسٹرکٹ کے وسائل بشمول اہلکار استعمال نہیں کرتا

RIVERSIDEUNIFIED.ORG/SAFEZONES



اس گائیڈ کا مقصد ہمارے اصولوں کو واضح کرنا اور ان RUSD خاندانوں کے لیے وسائل فراہم کرنا ہے جنہیں والدین یا خاندان کی حراست یا ملک بدری کی صورت میں اپنے طلبہ کے لیے انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خاندانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ تفصیلی معلومات کا جائزہ لینے کے لیے RUSD کی ویب سائٹ دیکھیں، بشمول ڈسٹرکٹ کی پالیسیوں اور طریقہ کار کے متعلق اکثر پوچھے جانے والے سوالات۔ اس معلومات کی پرنٹ شدہ کاپیاں اسکول کے دفاتر اور ڈسٹرکٹ آفس میں ان خاندانوں کے لیے بھی دستیاب ہیں جو غیر ڈیجیٹل رسائی کو ترجیح دیتے ہیں۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال طلبہ کے لیے تناؤ یا اضطراب پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ پریشانی کا سامنا کر رہا ہے یا آپ کے خاندان کو مدد کی ضرورت ہے، تو براہ کرم اپنے اسکول کی سائٹ یا فیملی ریسورس سینٹر سے 4003-328 (951) پر رابطہ کریں۔

مزید برآں، ریورسائڈ یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ (Riverside Virtual School (RVS) پیش کرتا ہے، جو ایک مکمل طور پر تسلیم شدہ پروگرام ہے اور ایک منظم آن لائن ماحول میں براہ راست، زیر رہنمائی تدریس پیش کرتا ہے۔ اگر آپ اس بارے میں مزید معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ کے طلبہ گھر بیٹھے کیسے سیکھ سکتے ہیں، تو براہ کرم rvs.riversideunified.org پر جائیں یا **(951) 778-5300** پر کال کریں۔

RUSD اسکولوں کو فروغ دینے کے لیے وقف ہے جہاں ہر طالب علم خود کو محفوظ، قابل احترام اور معاونت کا حامل محسوس کرتا ہے۔ ایک ڈسٹرکٹ کے طور پر ہماری طاقت تمام بچوں کی دیکھ بھال، استحکام اور مواقع کے لیے ہماری مشترکہ عزم سے حاصل ہوتی ہے۔

احتیاط اور احترام کے ساتھ،
ریور سائیڈ یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ:



محفوظ تعلیمی زون کے اصول

کیمپس تک رسائی کے طریقہ کار

بی پی 3515.19



ریور سائیڈ یونیورسٹی اسکول ڈسٹرکٹ پالیسی 3515.19: ڈسٹرکٹ کیمپس بطور محفوظ تعلیمی زون اسکولوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ امیگریشن کے نفاذ کی ایجنسیوں کی ان تمام درخواستوں کو مسترد کریں جو کیمپس، طلبہ یا طلبہ کے ریکارڈ تک رسائی کی خواہاں ہیں جب تک کہ قانونی طور پر تعمیل کی ضرورت نہ ہو۔

اس طرح کے حالات بہت کم ہوتے ہیں اور مناسب قانونی دستاویزات کا مکمل جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

تمام RUSD اسکولوں کو اسکولوں کو بند کیمپس کے طور پر نامزد کرنے والے مستقل نشان فراہم کیے گئے ہیں۔ بورڈ کی پالیسی کے مطابق، تمام ملاقاتیوں کو اسکول کے جائز کاروبار کے لیے کیمپس تک رسائی سے پہلے فرنٹ آفس میں چیک ان کرنے، شناخت پیش کرنے اور رجسٹریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمپس تک غیر مجاز رسائی ممنوع ہے۔



دستاویزات اور جائزہ

اگر امیگریشن کے نفاذ کی سرگرمیوں میں ملوث کسی ایجنٹ کی طرف سے کوئی درخواست ہوتی ہے:

- درخواستیں فوری طور پر ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور قانونی مشیر کو بھیجی جاتی ہیں
- اگر درخواست کسی طالب علم کے متعلق ہو تو والدین یا سرپرست کو عملے کے ذریعے فوری طور پر مطلع کیا جاتا ہے
- افسر کی اسناد کی تصدیق کی جاتی ہے
- تحریری اجازت کا جائزہ لیا جاتا ہے
- وارنٹ یا عدالتی احکامات کا جائزہ لیا جاتا ہے
- اسکول کا عملہ آزادانہ طور پر قانونی فیصلہ نہیں کرتا

ڈسٹرکٹ کے طریقہ کار کے مطابق، ایجنٹوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ دستاویزات کے جائزے کے دوران فرنٹ آفس میں موجود رہیں۔

اگر ایجنٹ تحریری اجازت اور جج کے دستخط شدہ عدالتی وارنٹ فراہم نہیں کر سکتے جو خاص طور پر تلاش یا گرفتاری کے لیے مجاز فرد یا علاقے کی نشاندہی کرتا ہے، تو ڈسٹرکٹ پراپرٹی تک رسائی سے انکار کر دیا جاتا ہے۔

اگر ڈسٹرکٹ کا قانونی مشیر تعین کرتا ہے کہ رسائی قانونی طور پر ضروری ہے:

- رسائی سختی سے ان تک محدود ہے جن کی وارنٹ میں مخصوص اجازت دی گئی ہے
- ایجنٹوں کو وارنٹ میں خاص طور پر نشاندہی کی گئی معلومات یا علاقوں کے علاوہ دیگر تک رسائی کی اجازت نہیں ہے۔
- کیمپس میں موجودگی کے دوران پرنسپل یا نامزد شخص کی طرف سے ایجنٹوں کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے۔
- جب قابل عمل ہو تو پرنسپل یا نامزد شخص وارنٹ کے دائرہ سے باہر افراد کے ساتھ ایجنٹ یا افسر کی بات چیت کو ہر حد تک کم کرے گا
- اگر کسی طالب علم کے انٹرویو کی اجازت دی گئی ہے، تو خلل کو کم کرنے اور طالب علم کی رازداری کی حفاظت کے لیے یہ کسی نجی جگہ پر، دیگر طلبہ کی نظر اور سماعت سے باہر منعقد کیا جائے گا۔
- ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر، پرنسپل یا نامزد شخص تفتیش کی نگرانی کے لیے انٹرویو میں شرکت کرے گا۔

طالب علم کی معلومات اور رازداری

والدین کی رضامندی یا تصدیق شدہ عدالتی اجازت کے بغیر، ڈسٹرکٹ درج ذیل جاری نہیں کرتا:

- کسی بھی قسم کا تعلیمی ریکارڈ
- طالب علم کی ذاتی معلومات
- گھر یا سفر کی معلومات

اگر ICE ایڈمنسٹریٹو حکم طلبی سمیت کوئی حکم طلبی پیش کیا جاتا ہے، تو معاملہ نظر ثانی کے لیے ڈسٹرکٹ کے قانونی مشیر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ ان انتظامی حکم طلبیوں کے نفاذ کی مخالفت کرے گا جو تعلیم سے متعلق نہیں ہیں اور قانون کے مطابق صرف حتمی عدالتی احکامات کی تعمیل کرے گا۔

ڈسٹرکٹ والدین یا سرپرست کو ایسی کسی بھی درخواست کی اطلاع فراہم کرے گا، الا یہ کہ وارنٹ یا عدالتی حکم کے ذریعے واضح طور پر ممنوع نہ ہو۔

عملے کی تربیت اور تیاری

پرنسپل، منتظمین، اور دفتری عملہ درج ذیل کے متعلق ڈسٹرکٹ کے اصولوں کی تربیت حاصل کرتے ہیں:

- ملاقاتی کی رسائی کے طریقہ کار
- دستاویزات کے جائزے کے تقاضے
- طالب علم کی رازداری کی حفاظتیں
- ہنگامی ردعمل کے اصول



ہنگامی حالات اور حفاظتی ردعمل

قانون کے تحت، ایجنٹس اور افسران کبھی کبھار ایسے ہنگامی حالات پر زور دے سکتے ہیں جن میں فوری حفاظتی خدشات شامل ہوں جو کیمپس کی سلامتی کے لیے فوری خطرہ ہیں۔

اگر کوئی ایجنٹ عملے کی ہدایات اور ڈسٹرکٹ کے اولوں کی تعمیل نہیں کرتا

ڈسٹرکٹ کی پالیسی کے مطابق، عملے سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ کسی ایسے افسر کو جسمانی طور پر روکیں جو بغیر اجازت کے کیمپس میں داخل ہوتا ہے۔ ملازمین کو حفاظت کو ترجیح دینے اور ڈسٹرکٹ کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، بشمول حفاظتی اصولوں کا فوری نفاذ، انتظامیہ کو مطلع کرنا، اور بات چیت کو دستاویز بند کرنا۔ یہ طریقہ کار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اسکول کیمپس میں کسی بھی غیر مجاز داخلے پر کیسے ردعمل دیتے ہیں۔

جب امیگریشن کے نفاذ کے ایجنٹ کیمپس میں ہوں تو ڈسٹرکٹ کی مواصلت

RUSD خاندانوں کے ساتھ واضح، درست مواصلت کو ترجیح دیتا ہے۔ کیلیفورنیا کے قانون (سینیٹ بل 98) کے مطابق، ڈسٹرکٹ متاثرہ اسکول میں خاندانوں کو مطلع کرے گا اگر اسکول کیمپس میں امیگریشن کے نفاذ کی سرگرمی کی تصدیق ہوتی ہے۔ مناسب ہونے پر دوسرے اسکولوں کو فالو اپ نوٹیفکیشن دیا جائے گا۔



فیملیز کو اسکولوں کے قریب امیگریشن کے نفاذ کی سرگرمی کے بارے میں کب مطلع کیا جاتا ہے

خاندانوں کو مطلع کیا جاتا ہے جب:

- معلومات کی تصدیق کی جاتی ہے
- صورتحال براہ راست اسکول کی کمیونٹی، کیمپس کے آپریشنز یا حفاظت کو متاثر کرتی ہے
- مواصلت بامعنی وضاحت یا یقین دہانی فراہم کرتی ہے

تصدیق شدہ سرگرمی سے براہ راست متاثر ہونے والی کمیونٹیز کے ساتھ مواصلت کا اشتراک کیا جائے گا، اسکولوں کے قریب بیرونی سرگرمیوں کی ہر رپورٹ کے نتیجے ڈسٹرکٹ بھر میں پیغام رسانی نہیں کی جائے گی

تصدیق کیوں ضروری ہے

ابتدائی رپورٹیں نامکمل یا غلط ہو سکتی ہیں۔

تصدیق سے درج ذیل کی حفاظت ہوتی ہے:

- درستگی
- طالب علم کی رازداری
- غلط معلومات کی وجہ سے غیر ضروری تناؤ

ہمارے بہت سے طلبہ اور فیملیز شدید اضطراب اور خوف کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہم حقائق کی تصدیق کے لیے پرعزم ہیں تاکہ انہیں مزید تناؤ سے بچایا جاسکے جبکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ بروقت معلومات کا اشتراک کیا جائے۔



خاندانی تیاری کا منصوبہ

ILRC.ORG



ہنگامی صورت حال میں ہر خاندان کے پاس خاندانی تیاری کا منصوبہ ہونا چاہیے۔ تارکین وطن خاندانوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے کہ وہ مستقبل کا سوچیں اور امیگریشن سے متعلقہ ہنگامی صورت حال کے لیے مزید ٹھوس منصوبے مرتب کریں۔ تفصیلی، قابل پرنٹ پلان کے لیے، ilrc.org پر امیگرینٹ لیگل ریسورس سنٹر (ILRC) دیکھیں یا QR کوڈ اسکین کریں۔

دیکھ بھال کرنے والے کی اجازت کا حلف نامہ رکھیں

اگر آپ نے ایک قابل بھروسہ بالغ کی شناخت کی ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بچے کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، تو اس سے نگہداشت کرنے والے کی اجازت کا حلف نامہ پُر کرنے کو کہیں۔ دیکھ بھال کرنے والے کی اجازت کا حلف نامہ ایک فارم ہے جو غیر رشتہ داروں کو آپ کے بچے کو اسکول میں داخل کرنے اور اسکول سے متعلقہ طبی علاج حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دیکھ بھال کرنے والے کی اجازت کا حلف نامہ آپ کے بچے کے والدین کے طور پر آپ کے حقوق کو متاثر نہیں کرتا، یعنی آپ کے پاس اپنے بچے کی تحویل اور کنٹرول رہتا ہے۔ ایک ٹیمپلیٹ مندرجہ ذیل صفحہ پر ہے اور ایک مکمل حلف نامہ **5700 Arlington Ave, Riverside, CA 92504** پر سنٹرل رجسٹریشن سنٹر میں جمع کرانا ضروری ہے۔



دیکھ بھال کرنے والے کی اجازت کا حلف نامہ

اس حلف نامے کے استعمال کی اجازت کیلیفورنیا فیملی کوڈ کے ڈویژن 11 کے حصہ 1.5 (سیکشن 6550-6552) سے حاصل ہے۔
ہدایات: آئٹمز 1-4 کی تکمیل اور حلف نامے پر دستخط ایک نابالغ بچے کے اسکول میں داخلے کی اجازت دینے اور اسکول سے متعلقہ طبی دیکھ بھال کی اجازت دینے کے لیے کافی ہے۔ بچے کے لیے کسی بھی دوسری طبی دیکھ بھال کی اجازت دینے کے لیے آئٹمز 5-8 کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ واضح طور پر ٹائپ کریں یا پرنٹ کریں۔

درج ذیل نابالغ بچہ میرے گھر میں رہتا ہے، اور میری عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے۔

1. نابالغ بچے کا نام: 2. نابالغ بچے کی تاریخ پیدائش: 3. میرا نام (بالغ شخص جو فارم مکمل کر

رہا ہے):

4. میرے گھر کا پتہ:

5. میں اس نابالغ بچے کا/کی رشتہ دار ہوں جس کا نام آئٹم 1 میں درج ہے۔ ("رشتہ دار" کی تعریف کے لیے اس فارم کو پلٹ کر دیکھیں۔)

6. ایک یا دونوں پر نشان لگائیں (مثال کے طور پر، اگر آپ نے والدین میں سے ایک کو اطلاع دی ہے لیکن دوسرے کو تلاش نہیں کر سکے ہیں):

الف. میں نے والدین یا دوسرے شخص (افراد) جنہیں آئٹم 1 میں درج نابالغ بچے کی قانونی تحویل حاصل ہے، کو اطلاع دی ہے کہ میں بچے کی طبی دیکھ بھال کی اجازت دینے کا ارادہ رکھتا/رکھتی ہوں اور مجھے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔

ب. میں اس وقت والدین یا دوسرے شخص (افراد) سے رابطہ کرنے سے قاصر ہوں جو آئٹم 1 میں نامزد نابالغ بچے کی قانونی تحویل رکھتے ہیں، کہ انہیں بچے کے لیے طبی دیکھ بھال کی اجازت دینے کے اپنے ارادے کے بارے میں مطلع کر سکوں۔

7. میری تاریخ پیدائش:

8. میرا کیلیفورنیا کا ڈرائیونگ لائسنس یا شناختی کارڈ یا حکومت کا جاری کردہ قونسلر کارڈ نمبر:

دیکھ بھال کرنے والے کو انتباہ: اگر اوپر دیے گئے مکمل بیانات میں سے کوئی درست نہیں ہے تو اس فارم پر دستخط نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، تو آپ جرم کے مرتکب گئے جس کی سزا جرمانہ، قید، یا دونوں ہو سکتی ہے۔

مقامی تعلیمی ایجنسیوں اور صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے والوں کو نوٹس: اس فارم کو درست ہونے کے لیے عدالتی مہر یا عدالت کے کلرک یا جج کے دستخط کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسے نوٹرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

میں ریاست کیلیفورنیا کے قوانین کے تحت جھوٹی گواہی کی سزا کے تحت اعلان کرتا کرتی ہوں کہ اوپر دی گئی معلومات درست اور صحیح ہیں۔

تاریخ:

اپنے نام کے دستخط کریں

صفحہ 2 پر نوٹس اور اضافی معلومات دیکھیں۔

نوٹس:

1. یہ حلف نامہ (جسے اعلامیہ بھی کہا جاتا ہے) بچے کی دیکھ بھال، تحویل اور کنٹرول کے حوالے سے صفحہ 1 پر آئٹم 1 میں درج نابالغ بچے کے والدین یا قانونی سرپرست کے حقوق کو متاثر نہیں کرتا۔ یہ دیکھ بھال کرنے والے کو بچے کی قانونی تحویل نہیں دیتا۔
2. جو شخص اس حلف نامے پر انحصار کرتا ہے، اس پر مزید انکوائری یا تفتیش کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

اضافی معلومات:

دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے:

1. آئٹم 5 کے مقاصد کے لیے "رشتہ دار" سے مراد، وہ بالغ ہے جو خون، گود لینے، یا رشتہ داری کے پانچویں درجے کے اندر بچے سے تعلق رکھتا ہے، بشمول سوتیلے والدین، سوتیلے بہن بھائی، اور پردادا، پردادی، پرانا، پرانی، یا ان کے/کی شوہر/بیوی، خواہ موت یا علیحدگی کی وجہ سے شادی ختم ہو چکی ہو۔
2. اگر آپ رشتہ دار یا فی الحال لائسنس یافتہ، تصدیق شدہ، یا منظور شدہ رضاعی والدین نہیں ہیں، تو قانون آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ نابالغ بچے کی دیکھ بھال کے لیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کوڈ کے سیکشن 1517 یا ویلفیئر اینڈ انسٹیٹیوشنز کوڈ کے سیکشن 16519.5 کے مطابق ریسورس فیملی کی منظوری حاصل کریں۔
- اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، تو براہ کرم اپنے مقامی محکمہ سماجی خدمات سے رابطہ کریں۔
3. اگر نابالغ آپ کے ساتھ رہنا چھوڑ دیتا ہے، تو حلف نامہ مزید قابل عمل نہیں رہے گا۔ آپ کو کسی بھی اسکول، نگہداشت صحت فراہم کنندہ، یا ہیلتھ کیئر سروس پلان کو مطلع کرنے کی ضرورت ہے جس کو آپ نے یہ حلف نامہ دیا ہے کہ نابالغ اب آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں، حلف نامہ مزید قابل عمل نہیں ہے۔
4. اگر آپ کے پاس آئٹم 8 (کیلینفورنیا کے ڈرائیور کا لائسنس یا ID، یا حکومت کی طرف سے جاری کردہ قونسلر کارڈ) میں درخواست کی گئی معلومات نہیں ہیں، تو شناخت کی دوسری شکل فراہم کریں جیسے کہ اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر یا Medi-Cal نمبر۔

اسکول کے اہلکاروں کے لئے:

1. تعلیمی کوڈ کے سیکشن 48204 میں درج ہے کہ یہ حلف نامہ سرپرستی یا دیگر تحویل کے حکم کے بغیر نابالغ کی رہائش کے تعین کے لیے ضروری بنیاد پیش کرتا ہے، جب تک کہ اسکول ڈسٹرکٹ اصل حقائق سے یہ تعین نہ کرے کہ نابالغ نگہداشت کرنے والے کے ساتھ نہیں رہ رہا۔
2. اسکول ڈسٹرکٹ کو اضافی معقول ثبوت کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ دیکھ بھال کرنے والا آئٹم 4 میں دیے گئے پتے پر رہتا ہے۔
3. اس فارم کو درست ہونے کے لیے عدالتی مہر یا عدالت کے کلرک یا جج کے دستخط کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسے نوٹرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں اور صحت کی دیکھ بھال کے سروس پلانز کے لیے:

1. کسی رشتہ دار کے دستخط ہونے پر، یہ حلف نامہ اس رشتہ دار کو صفحہ 1 پر آئٹم 1 میں نامزد نابالغ بچے کے لیے طبی دیکھ بھال اور دانتوں کی دیکھ بھال کی اجازت دینے کے وہی حقوق فراہم کرتا ہے جو پروبیٹ کوڈ کے سیکشن 2353 کے تحت سرپرست کو دیے گئے ہیں۔ کسی رشتہ دار دیکھ بھال کرنے والے کی طرف سے اجازت یافتہ طبی نگہداشت میں ذہنی صحت کا علاج شامل ہو سکتا ہے، جو پروبیٹ کوڈ کے سیکشن 2356 کی حدود کے تابع ہے۔
2. صحت کی دیکھ بھال کا فراہم کنندہ جو اچھی نیت سے طبی یا دانتوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے مکمل شدہ نگہداشت کرنے والے کی اجازت کے حلف نامے پر انحصار کرتا ہے، اور حلف نامے میں بیان کردہ حقائق کے خلاف حقائق کا حقیقی علم نہیں رکھتا، وہ اس انحصار کے لئے کسی بھی شخص کے لیے مجرمانہ ذمہ داری یا شہری ذمہ داری نہیں رکھتا، اور پیشہ ورانہ تادیبی کارروائی کے تابع نہیں ہے، بشرطیکہ اس فارم کے قابل اطلاق حصوں کو مکمل کیا گیا ہو۔
- اس فارم کو درست ہونے کے لیے عدالتی مہر یا عدالت کے کلرک یا جج کے دستخط کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسے نوٹرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
3. یہ حلف نامہ صحت کی دیکھ بھال کی کوریج کے مقاصد کے لیے انحصار فراہم نہیں کرتا۔

کیلیفورنیا کے اسکولوں میں امیگریشن کے نفاذ کے اقدامات طلبہ اور فیملیز کے لیے گائیڈ

کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس
اٹارنی جنرل کا دفتر



اپنے تعلیمی حقوق کو جائیں

آپ کے بچے کو مفت عوامی تعلیم کا حق حاصل ہے

- تمام بچوں کو مفت عوامی تعلیم تک مساوی رسائی کا حق حاصل ہے، ان کے والدین/سرپرستوں کی امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر۔
- کیلیفورنیا میں تمام بچے:
- مفت عوامی تعلیم کا حق رکھتے ہیں۔
- اگر ان کی عمر 6 سے 18 سال کے درمیان ہے تو ان کا اسکول میں داخلہ ہونا ضروری ہے۔
- محفوظ، بے خطر اور پر امن اسکولوں میں جانے کا حق رکھتے ہیں۔
- امتیازی سلوک، ایذا رسانی، دھونس، تشدد اور دھمکیوں سے پاک سرکاری اسکول کے تعلیمی ماحول میں رہنے کا حق رکھتے ہیں۔
- اسکول کی طرف سے پیش کردہ کسی بھی پروگرام یا سرگرمی میں بلا امتیاز شرکت کرنے کا مساوی موقع رکھتے ہیں۔

اسکول کے اندراج کے لیے درکار معلومات

- اسکولوں کو بچے کی عمر یا رہائش کے ثبوت کو ظاہر کرنے کے لیے طالب علم کے والدین یا سرپرست سے متعدد دستاویزات کو قبول کرنا چاہیے اور اسکولوں کو اس دستاویز کی کاپی اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو بچے کی عمر کے ثبوت کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔
- اسکول میں داخلے کے لیے شہریت/امیگریشن کی حیثیت کے بارے میں معلومات کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسکول میں داخلے کے لیے کبھی سوشل سیکیورٹی نمبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ذاتی معلومات کی رازداری

- وفاقی اور ریاستی قوانین طلبہ کے تعلیمی ریکارڈ اور ذاتی معلومات کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ قوانین عام طور پر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اسکول طلبہ کی معلومات جاری کرنے سے پہلے والدین یا سرپرستوں سے تحریری رضامندی حاصل کریں، الا یہ کہ معلومات کا اجراء تعلیمی مقاصد کے لیے ہو، وہ پہلے ہی عوامی سطح پر دستیاب ہو، یا عدالتی حکم یا حکم طلبی کے جواب میں ہو۔
- کچھ اسکول عوامی طور پر طالب علم کی بنیادی "ڈائریکٹری معلومات" جمع اور فراہم کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو، اسکول ڈسٹرکٹ کو والدین/سرپرستوں کو ڈائریکٹری معلومات کی پالیسی کا تحریری نوٹس فراہم کرنا چاہیے، اور آپ کے بچے کی معلومات جاری کرنے سے انکار کرنے کا اختیار فراہم کرنا چاہیے۔

فیملی سیفٹی پلانز، اگر آپ کو حراست میں لیا گیا یا ملک بدر کر دیا گیا ہے

- آپ اپنے بچے کے ہنگامی رابطے کی معلومات، بشمول ثانوی رابطوں، کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ قابل اعتماد بالغ سرپرست کی شناخت ہو سکے جو آپ کو حراست میں لینے یا جلاوطن کرنے کی صورت میں آپ کے بچے کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔
- آپ نگہداشت کرنے والے کی اجازت کا حلف نامہ یا کسی قابل اعتماد بالغ کو اپنے بچے کے لیے تعلیمی اور طبی فیصلے کرنے کا اختیار دینے کے لیے فرد کے عارضی سرپرست کی تقرری کی درخواست مکمل کر سکتے ہیں۔

شکایت دائر کرنے کا حق

- آپ کے بچے کو نفرت پر مبنی جرم کی اطلاع دینے یا اسکول ڈسٹرکٹ میں شکایت درج کرنے کا حق ہے اگر اس کی حقیقی یا سمجھی جانے والی قومیت، نسل یا امیگریشن کی حیثیت کی وجہ سے اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے یا ڈرایا جاتا ہے۔

کیلیفورنیا کے اسکولوں میں امیگریشن کے نفاذ کی سرگرمیوں کا ردعمل دینے کے وسائل کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، یا شکایت درج کرانے کے لیے، براہ کرم رابطہ کریں:

فون: (800) 952-5225

ای میل: BCJ@doj.ca.gov

<https://oag.ca.gov/bcj/complaint>

بیورو آف چلڈرنز جسٹس

کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل کا دفتر

P.O. Box 944255

Sacramento, CA 94244-2550



امیگرنت طلبہ کے لیے چیک لسٹ اور پبلک اسکولوں میں شرکت کرنے والے خاندان

1. آپ کو درج ذیل معلومات کو اسکول کے حکام کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے:

- آپ کو طالب علموں، والدین، سرپرستوں، یا خاندان کے دیگر افراد کی امیگریشن کی حیثیت سے متعلق معلومات، بشمول پاسپورٹ یا ویزے کا اشتراک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
- آپ کو سوشل سیکیورٹی نمبر (SSN) یا کارڈ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
- "مفت اور کم قیمت والے کھانے" فارم کو مکمل کرتے وقت، درخواست پر دستخط کرنے والے بالغ گھریلو رکن کے SSN کے صرف آخری چار ہندسے فراہم کریں۔
- اگر خاندان آمدنی کی اہلیت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور گھر کے کسی بالغ فرد کے پاس SSN نہیں ہے، تو آپ کا بچہ پھر بھی اہل ہے۔ درخواستوں کے مکمل ہونے کو یقینی بنانے کے لیے جہاں قابل اطلاق ہو وہاں پر "No SSN" باکس کو چیک کریں۔
- اگر گھر کا کوئی فرد CalFresh، CalWORKs (کیلیفورنیا میں کام کے مواقع اور
- بچوں کے لیے ذمہ داری)، یا FDPIR (انڈین ریزرویشنز پر خوراک کی تقسیم کا پروگرام) میں شرکت کرتا ہے تو طالب علم کو اسکول میں مفت یا کم قیمت کے کھانے کے لیے اہل بنانے کے لئے گھر کے کسی بالغ رکن کو اپنے SSN کے آخری چار ہندسے فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
- طالب علم کی رہائش یا عمر کے ثبوت کے لیے معلومات فراہم کرتے وقت، آپ کو ایسی دستاویزات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو امیگریشن کی حیثیت سے متعلق معلومات کو ظاہر کر سکیں۔

2. طالب علم کی معلومات کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں:

- طالب علم کی معلومات کے حوالے سے اسکول کی تحریری رازداری کی پالیسیاں طلب کریں۔
- "ڈائریکٹری کی معلومات" کے لیے اسکول کی پالیسی کا جائزہ لیں - جو طالب علم کی بنیادی معلومات کو عوامی طور پر جاری کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اور غور کریں کہ آیا اس معلومات کو جاری کرنے سے اخراج کرنا ہے۔

3. ایسے حالات کی تیاری کے لیے اقدامات کریں جہاں ایک یا زیادہ والدین یا سرپرستوں کو حراست میں لیا گیا ہو یا ملک بدر کیا گیا ہو:

- ایک محفوظ جگہ پر "فیملی سیفٹی پلان" تیار کریں اور رکھیں (مثال: https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/family_preparedness_plan.pdf) جس میں درج ذیل معلومات شامل ہوں:
- آپ کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک قابل اعتماد بالغ کا نام اگر کوئی والدین یا سرپرست یہ نہیں کر سکتے۔
- ہنگامی فون نمبرز اور ہدایات کہ اہم دستاویزات (برتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، سوشل سیکیورٹی کارڈ، ڈاکٹر سے رابطہ کی معلومات، وغیرہ) کہاں سے مل سکتی ہیں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے کے اسکول میں ہمیشہ موجودہ ہنگامی رابطے کی معلومات موجود ہوں، بشمول متبادل رابطے اگر کوئی والدین یا سرپرست دستیاب نہ ہو۔

وسائل

حراست یا ملک بدری پر ردعمل دینے والے تارکین وطن خاندانوں کے لیے درج ذیل وسائل دستیاب ہیں:

- امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ (ICE) کے زیر حراست افراد کا لوکیٹر: <https://locator.ice.gov/odls/homePage.do>۔ براہ کرم نوٹ کریں: اس سائٹ کا مقصد صرف ان افراد کا پتہ لگانا ہے جو پہلے ہی زیر حراست ہیں، نہ کہ عام امیگریشن اسٹیٹس کے متعلق سوالات کرنا ہے۔
- پرائیویٹ پریکٹس میں امیگریشن وکلاء، تسلیم شدہ نمائندے (جو امیگریشن کی کارروائی میں تارکین وطن کی مدد کرتے ہیں)، یا قانونی امدادی تنظیمیں:

• اسٹیٹ بار آف کیلیفورنیا اٹارنی تلاش کریں: <http://www.calbar.ca.gov/Attorneys>

• کیلیفورنیا کی وہ تنظیمیں جنہیں محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی (DHS) اور ایگزیکٹو آفس آف امیگریشن ریویو (EOIR) کے سامنے امیگریشن کی نمائندگی کرنے کے لیے بورڈ آف امیگریشن اپیلز (BIA) کے ذریعے منظور کیا گیا ہے: <https://www.justice.gov/eoir/page/file/942306/download#CALIFORNIA>

• کیلیفورنیا کی عدالتوں کے سیلف ہیپ سنیٹرز: <http://www.courts.ca.gov/selfhelp-selfhelpcenters.htm>

• قانونی امداد کے دفاتر اور وکلاء کی ریفرل سروسز: <http://www.courts.ca.gov/getting-legal-help>

• والدینیا سرپرست کے آبائی ملک کا قونصل خانہ یا سفارت خانہ۔

فیملی ریسورس سنٹر

FRC والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کو ڈسٹرکٹ کی خدمات اور قابل اعتماد کمیونٹی پارٹنرز سے جوڑنے کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ FRC نے مقامی امیگریشن اور قانونی خدمات کے ساتھ ساتھ فیملی سپورٹ ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں۔

مقام	RUSD فیملی ریسورس سنٹر (FRC) تعلیم، بہبود، مشغولیت
<p>6735 Magnolia Avenue, Portable B6 Riverside, CA, 92506 (951) 328-4003</p> <p>اوقات: پیر - جمعہ صبح 7:30 سے 4:30 بجے تک صرف اپائنٹمنٹ کے ذریعے دفتری اوقات میں توسیع</p>	<p>RUSD فیملی ریسورس سینٹر (FRC)</p> <p>معلومات اور روابط کے لیے ہم سے رابطہ کریں:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ضروری فیملی سپورٹ سروسز تک رسائی • قانونی معاونت کے پروگرام • صحت اور بہبود • کونسلنگ اور کرائسس اسسٹنس - سائٹ پر SAP کونسلر • پرورش میں معاونت • بچوں کی دیکھ بھال • کم لاگت پر انٹرنیٹ اور کمپیوٹر تک رسائی • مقامی فراہم کنندگان کے ریفرلز
<p>4366 Bermuda Avenue Riverside, CA 92507 (951) 328-4003</p> <p>اوقات: پیر: صبح 8:00 سے شام 4:30 بجے بدھ: صبح 8:00 سے شام 4:30 بجے صرف اپائنٹمنٹ کے ذریعے دفتری اوقات میں توسیع * دو لسانی خاندان اور کمیونٹی رابطہ میلبیسا سنٹانا سے بات کی درخواست کریں۔</p>	<p>کمیونٹی سیٹلمنٹ ایسوسی ایشن (CSA) میں RUSD فیملی ریسورس سنٹر</p> <p>CSA میں FRC ایسٹ سائیڈ میں رہنے والے خاندانوں کے لیے FRC خدمات تک رسائی کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ شراکت داری درج ذیل شعبوں میں وسائل اور تعاون کو ممکن بناتی ہے:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قانونی دستاویز کی تیاری • بنیادی ضروریات: خوراک کی فراہمی، کپڑوں کی فراہمی، ڈائپر کی تقسیم • Cal Fresh اور MediCal کی درخواستیں • کمپیوٹر تک رسائی • اسکول کے بعد کے پروگرام

اضافی وسائل

اپنے حقوق جانیں: اگر حراست میں لیا جائے تو کیا کریں

IMMIGRANTJUSTICE.ORG/KNOWYOURRIGHTS



یہ وسیلہ تارکین وطن اور ان کے اہل خانہ کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ جب کسی کو امیگریشن حکام کے ذریعے حراست میں لیا جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ تارکین وطن کے حقوق کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، immigrantjustice.org/KnowYourRights ملاحظہ کریں۔

شہر اور کاؤنٹی کے وسائل

ویب سائٹ	شہر اور کاؤنٹی کے وسائل
 <p>bit.ly/rivcityimmig</p>	<p>ریورسائیڈ شہر - سب کے لیے ایک محفوظ، جامع ریورسائیڈ</p> <p>یہ ویب صفحہ کمیونٹی کے اراکین کو باخبر رہنے، اپنے حقوق کو سمجھنے اور اعتماد کے ساتھ سٹی سروسز تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دینے کے لیے مفید معلومات، رپورٹنگ ٹولز اور وسائل فراہم کرتا ہے۔</p>
 <p>bit.ly/rivcoimmig</p>	<p>ریورسائیڈ کاؤنٹی - امیگریشن کے وسائل</p> <p>یہ ویب صفحہ کمیونٹی کے اراکین کو امیگریشن کی معلومات اور وسائل فراہم کرتا ہے۔</p>
 <p>bit.ly/dpssimmigration</p>	<p>ریورسائیڈ کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ آف پبلک سوشل سروسز (DPSS) پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے وسائل</p> <p>DPSS ریورسائیڈ کاؤنٹی میں مہاجرین اور تارکین وطن کی مدد کے لیے کمیونٹی تنظیموں کے ساتھ کام کرتا ہے۔</p>

ویب سائٹ	مقام	مقامی امیگریشن قانونی خدمات
 <p>todec.org</p>	<p>234 S. D Street Perris, CA 92570 (951) 943-1955</p>	<p><u>تربیتی مواقع ترقیاتی تعلیمی مرکز (TODEC)</u> تارکین وطن اور کمیونٹی ممبران کے لیے مفت قانونی خدمات کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی وکالت اور مشغولیت۔</p>
 <p>sbcscinc.org</p>	<p>788 N. Arrowhead Avenue San Bernardino, CA 92401 (909) 885-1992</p>	<p><u>سان برنارڈینو کمیونٹی سروس سنٹر</u> SBCSC ان لینڈ ایمپائر میں کمیونٹی کے اہل افراد کو محدود قانونی خدمات فراہم کرتا ہے۔</p>
 <p>ccsbriv.org</p>	<p>3020 Madison Street Riverside, CA 92504 (909) 388-1240</p>	<p><u>کیتھولک چیرٹیڈ فیملی اور کمیونٹی سروسز</u> معلومات، مشاورت اور تعلیم۔ کیتھولک چیرٹیڈ ایک پناہ گزینوں کی آبادکاری کی ایجنسی بھی ہے جسے وفاقی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے پناہ گزینوں کو معاون خدمات فراہم کرنے کا اختیار دیا ہے۔</p>
 <p>linktr.ee/CHIRLAIE</p>	<p>330 North D Street, Suite 424 San Bernardino, CA 92401 (909) 475-0687</p>	<p><u>کولیشن فار ہیومن امیگرنٹ رائٹس (CHIRLA)</u> قانونی خدمات، تعلیم، وکالت، اور قیادت۔</p>
 <p>carecen-la.org</p>	<p>468 W. 5th Street Suite 204 San Bernardino, CA 92401 (213) 385-7800</p>	<p><u>سنٹرل امریکن ریسورس سینٹر (CARECEN)</u> قانونی خدمات، وکالت، اور پالیسی۔</p>
 <p>inlandlegal.org</p>	<p>Riverside Office 1040 Iowa Avenue Suite 109 Riverside, CA 92507 (888) 245-4257</p>	<p><u>انلینڈ کاؤنٹی لیگل سروسز:</u> ایسے بالغوں اور نابالغوں کے لئے امیگریشن سپورٹ جو امریکہ میں گھریلو تشدد کے سروائیور ہیں۔</p>

مقام	ویب سائٹ	مقامی امیگریشن قانونی خدمات
<p>998 N D Street San Bernardino, CA 92410 (909) 888-1800</p>	 libreriadelpueblo.org	<p><u>لائبریری ٹیل پینبلو-سان برنارڈینو</u> قانونی مشاورت، تعلیم، اور خاندانی معاونت کی خدمات۔</p>
<p>Riverside Extension 3610 Central Avenue Suite 204 Riverside, CA 92506 (909) 397-4215</p>	 pomonadaylabor.org	<p><u>پومونا اکنامک ایچیونٹی سنٹر (PEOC)</u> تارکین وطن کے حقوق کا محکمہ یومیہ مزدوروں، گھریلو ملازمین، اور دیگر کم اجرت والے تارکین وطن کارکنوں کو امیگریشن کی کم قیمت قانونی خدمات، تعلیم، اور وکالت فراہم کرتا ہے۔</p>
<p>2401 East Katella Avenue Suite 600 Anaheim, CA 92806 (213) 977-7500</p>	 ajsocal.org	<p><u>ایشین امریکن ایڈوانسنگ جسٹس سدرن سی اے</u> قانونی خدمات، تعلیم، وکالت، اور مشغولیت۔</p>
<p>634 S. Spring St. 10th Fl. Los Angeles, CA 90014 213-634-0999 info@immdef.org</p> <p>دفاتر ریور سائٹیڈ میں، صرف ملاقات کے ذریعے</p>	 immdef.org	<p><u>امیگرنٹ ڈیفنڈرز لاء سینٹر (ImmDef)</u> ImmDef ایک اگلی نسل کی سماجی انصاف کی قانونی فرم ہے جو امیگریشن سسٹم میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف ہماری تارکین وطن کمیونٹیز کا دفاع کرتی ہے۔</p>
<p>Justice.gov/eoir</p>		<p><u>امریکی محکمہ انصاف-ایگزیکٹو آفس برائے امیگریشن ریویو</u> CA کے اندر بلامعاوضہ قانونی خدمات فراہم کرنے والوں کی فہرست۔</p>

ویب سائٹ	مقام	مقامی امیگریشن قانونی خدمات
 <p>usp.ucr.edu</p>	<p>UCR Undocumented Student Programs 900 University Avenue Riverside, CA 92521 (951) 827-2193</p>	<p><u>UC امیگرنٹ لیگل سروسز</u> UC امیگرنٹ لیگل سروس سنٹر صرف اندراج شدہ UC طلبہ اور ان کے قریبی خاندان کے افراد کو امیگریشن امداد فراہم کرتا ہے۔</p>



ویب سائٹ	قونصلیٹ کے دفاتر قانونی مدد، ریکارڈ اور دستاویز کی تیاری، ہنگامی امداد
 <p>bit.ly/4cKAYkp</p>	<p><u>اینا قریبی قونصلیٹ آفس تلاش کریں - ڈائرکٹری</u></p>
 <p>consulmex.sre.gob.mx</p>	<p><u>میکسیکو کا قونصل خانہ، سان برنارڈینو</u> Dr. Salvador Percastre Mendizabal, Cónsul titular 293 N D St. San Bernardino, CA 92401 (909) 889-9836</p>
 <p>minex.gob.gt</p>	<p><u>گوئٹے مالا کا قونصل خانہ، سان برنارڈینو</u> Licda. Raquel Donado, Cónsul San Bernardino, California proteccionconsularsb@minex.gob.gt (909) 572-8800</p>
 <p>consuladoselsalvador.com</p>	<p><u>ایل سلواڈور کا قونصل خانہ، سان برنارڈینو</u> Lic. Manuel Eugenio Flores Tobar 3505 Highland Ave. Highland, CA 92346 (888) 301-1130</p>

بہبود کے وسائل

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ غیر یقینی اور دباؤ والے حالات طلبہ اور خاندانوں پر جذباتی اثر ڈال سکتے ہیں۔ مشکل وقت میں پریشانی، اضطراب، یا خلفشار کے احساسات مکمل طور پر قابل فہم ہوتے ہیں۔ ہمارے طلبہ کی فلاح و بہبود ایک ترجیح ہے، اور مدد دستیاب ہے۔ ذیل میں آپ کو ایسے وسائل اور خدمات ملیں گی جو خدشات سے نمٹنے اور ضرورت ہونے پر امداد تک رسائی میں طلبہ اور خاندانوں کی مدد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔

ویب سائٹ	بہبود کے وسائل
 riversideunified.org/sap	<p><u>RUSD طلبہ کا امدادی پروگرام (SAP)</u></p> <p>طلبہ کو امیگریشن کے خدشات کی وجہ سے جذباتی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے ان کے تحفظ اور فلاح و بہبود کا احساس متاثر ہوتا ہے۔ یہ جذبات بعض اوقات اسکول جانے سے انکار یا رویے میں دیگر تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ SAP کونسلرز ایک اہم وسیلہ ہیں اور تمام طلبہ اور ان کے خاندانوں کی ذہنی صحت اور بہبود کے لیے دستیاب ہیں۔</p>
 bit.ly/RUSDcareSolace	<p><u>کیئر سولیس</u></p> <p>Care Solace تصدیق شدہ ذہنی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کو نگہداشت کا ربط فراہم کرتا ہے، بشمول مشاورتی ایجنسیاں اور نجی پریکٹس فراہم کرنے والے، یہ ذاتی طور پر اور ٹیلی ہیلتھ کے اختیارات پیش کرتے ہیں۔</p>
 calyouth.org	<p><u>سی اے یوتھ کرائسز لائن</u></p> <p>تربیت یافتہ کونسلر سے مفت مدد حاصل کرنے کے لیے 24/7 پر ٹیکسٹ کریں۔ 800-843-5200 یا آن لائن چیٹ کریں۔</p>

ویب سائٹ	بہبود کے وسائل
 <p data-bbox="262 603 432 625">/we-reachout.org/jrvc</p>	<p data-bbox="1420 482 1512 515">ریچ آؤٹ</p> <p data-bbox="1095 526 1512 561">IE کے لیے ذہنی صحت کی مفت معاونت</p>
 <p data-bbox="262 853 432 875">immigrantsrising.org</p>	<p data-bbox="1329 710 1512 743">امیگرینٹس رائزنگ</p> <p data-bbox="534 754 1512 836">غیر دستاویز بند لوگوں کی حیثیت سے قطع نظر انہیں استقامت قائم رکھنے اور ترقی کی منازل طے کرنے میں مدد کے لئے بہبود کے وسائل۔</p>
 <p data-bbox="291 1112 401 1134">988lifeline.org</p>	<p data-bbox="878 968 1512 1002">اگر آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے تو 988 لائف لائن دستیاب ہے۔</p> <p data-bbox="513 1013 1512 1094">988 خودکشی اور بحران کی لائف لائن دستیاب ہے اگر آپ ذہنی صحت کی جدوجہد یا جذباتی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا صرف کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تنہا نہیں ہیں۔</p>
 <p data-bbox="291 1362 401 1384">brightlife.kids</p>	<p data-bbox="1364 1218 1512 1251">برائٹ لائف کڈز</p> <p data-bbox="565 1263 1512 1344">کیلیفورنیا کے خاندانوں کے لیے ذاتی نوعیت کی مدد۔ 0-12 سال کی عمر کے بچوں کو نیند کے مسائل، پریشانی، سماجی مہارتوں اور بہت کچھ کے لیے مفت ماہرانہ کوچنگ ملتی ہے۔</p>
 <p data-bbox="300 1612 392 1634">theieiy.org</p>	<p data-bbox="1043 1490 1512 1524">دی ان لینڈ ایمیانر امیگرنٹ یوتھ کلیکٹو (LEIYC)</p> <p data-bbox="878 1535 1512 1570">تارکین وطن اور غیر دستاویز بند نوجوانوں کی آواز کو بلند کرنا</p>

بورڈ آف ایجوکیشن نے معذوری، صنف، صنفی شناخت، صنفی اظہار، قومیت، نسل یا ثقافتی پس منظر، مذہب، جنسی رجحان، یا امیگریشن کی حیثیت سمیت کسی دوسرے محفوظ خصوصیت سے قطع نظر، ہر ڈسٹرکٹ کیمپس کو تمام طلبہ اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک محفوظ تعلیمی زون کے طور پر نامزد کیا ہے۔

RUSD بورڈ کی پالیسی 3515.19: ڈسٹرکٹ کیمپس بطور محفوظ تعلیمی زون

